

60314 - لڑکیوں کا ختنہ کرنا، اور بعض ڈاکٹروں کا اسے تسلیم نہ کرنا

سوال

ہم نے بہت سے ڈاکٹر حضرات سے سنا ہے کہ وہ لڑکیوں کا ختنہ کرنا تسلیم نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ختنہ کرنا ان کے لیے جسمانی اور نفسی کمزوری کا باعث بنتا ہے، اور ختنہ کرنا ایک موروثی عادت ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

ختنہ کرنا موروثی اور خاندانی عادت نہیں جیسا کہ بعض لوگوں دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ یہ تو شریعت ربانی ہے اور ختنہ کی مشروعیت پر علماء کرام متفق ہیں، ہمارے علم کے مطابق تو مسلمانوں میں سے کوئی عالم دین بھی ایسا نہیں جو ختنہ کو غیر مشروع قرار دیتا ہو۔

ختنہ مشروع ہونے کی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کا ثبوت ہے جن میں سے چند ایک ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

1 - امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" پانچ اشیاء فطرتی ہیں: ختنہ کرنا، اور زیرناف بال مونڈنا، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا، اور ناخن تراشنا، اور مونچھیں کاٹنا "

صحیح بخاری حدیث نمبر (5889) صحیح مسلم حدیث نمبر (257) .

یہ حدیث عورتوں اور مردوں کے ختنہ کو عام ہے۔

2 - امام مسلم رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جب مرد عورت کی چار شاخوں کے مابین بیٹھ جائے اور ختنہ ختنے کے ساتھ لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے "

صحیح مسلم حدیث نمبر (349) .

اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ختنوں کا ذکر کیا ہے؛ یعنی ایک ختنہ بیوی کا اور ایک ختنہ خاوند کا؛ جو اس کی دلیل ہے کہ عورت بھی اسی طرح ختنہ کروائے گی جس طرح مرد ختنہ کرواتا ہے۔

3 - ابو داؤد رحمہ اللہ نے انصار قبیلہ کی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا:

" تم بالکل جڑ سے ہی نہ کاٹو، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ بہتر اور خاوند کو بہت محبوب ہے "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (5271) .

لیکن اس حدیث کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے بعض علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، اور بعض اسے صحیح مانتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح سنن ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

مندرجہ بالا احادیث کی بنا پر عورتوں کا ختنہ کرنا مشروع ہے، نہ کہ اس مختلف فیہ حدیث کی بنا پر۔

لیکن اس کے حکم کے متعلق علماء کرام سے تین قسم کے قول منقول ہیں:

پہلا قول:

مرد اور عورت دونوں کے لیے ختنہ کرانا واجب ہے، شافعی اور حنبلی حضرات کا مسلک یہی ہے، اور قاضی ابو بکر بن عربی مالکی نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

ہمارے نزدیک مرد و عورت دونوں کے لیے ختنہ کرانا واجب ہے، اور بہت سے سلف کا بھی یہی قول ہے، خطابی رحمہ اللہ نے ایسے ہی بیان کیا ہے، اور ختنہ واجب کہنے والوں میں امام احمد بھی شامل ہیں... اور مشہور اور صحیح مذہب جو امام شافعی نے بیان کیا اور جمہور علماء نے بھی اسے قطعی کہا ہے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے واجب ہے " انتہی۔

دیکھیں: المجموع للنووی (1 / 367) .

مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: فتح الباری (10 / 340) اور کشاف القناع (1 / 80).

دوسرا قول:

مرد اور عورت دونوں کے لیے ختنہ کرانا سنت ہے، احناف، اور مالکیہ کا مسلک یہی ہے، اور امام احمد کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

ابن عابدین حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اور السراج الوہاج کی کتاب الطہارۃ میں لکھا ہے کہ:

یہ علم میں رہے کہ ہمارے ہاں - یعنی احناف کے ہاں - مردوں اور عورتوں کے لیے ختنہ کرانا سنت ہے " انتہی۔

دیکھیں: حاشیۃ ابن عابدین (6 / 751)، اور مواہب الجلیل (3 / 259).

تیسرا قول:

مردوں کے لیے ختنہ کرانا واجب ہے، اور عورتوں کے لیے ختنہ کرانا مستحب اور ان کی عزت کا باعث ہے، یہ امام احمد کا تیسرا قول ہے، اور بعض مالکی حضرات مثلاً سحنون کا بھی یہی قول ہے، اور موفق ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔

دیکھیں: التمهید (21 / 60) اور المغنی (1 / 63).

مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے:

مرد اور عورت کے لیے ختنہ کرانا فطرتی سنت میں سے ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے ختنہ کرانا واجب ہے، اور عورتوں کے حق میں ختنہ کرانا سنت اور باعث عزت ہے۔ اھ

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (5 / 113).

اس سے یہ واضح ہوا کہ فقہاء اسلام مرد و عورت کے لیے ختنہ کرانے کی مشروعیت پر متفق ہیں، بلکہ ان میں اکثر تو دونوں کے لیے ختنہ کرانا واجب قرار دیتے ہیں، کسی ایک فقیہ نے بھی ختنہ نہ کرانے یا مکروہ یا حرام نہیں کہا۔

دوم:

رہا یہ کہ کچھ ڈاکٹر حضرات ختنہ کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ختنہ کرانا جسم اور نفس کے لیے

مضر ہے!!

ان کا یہ انکار صحیح نہیں، ہمیں - مسلمانوں کو - کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ہی کافی ہے تا کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور پھر ہمارا تو اس کے مفید ہونے کا بھی یقین ہے، اور ہم یہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ضرر اور نقصان نہیں، کیونکہ اگر اس میں کوئی نقصان اور ضرر ہوتا نہ تو اللہ تعالیٰ اسے مشروع کرتا اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے۔

سوال نمبر (45528) کے جواب میں کچھ طبی فوائد بیان کیے گئے ہیں جو بعض ڈاکٹر حضرات کی طرف سے بیان ہوئے ہیں۔

سوم:

ذیل کی سطور میں ہم عورت کا ختنہ کرنا صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ کہنے اور ختنہ کے خلاف محاذ کھولنے والوں کے خلاف معاصر علماء میں سے کچھ علماء کے فتویٰ جات پیش کرتے ہیں جنہوں نے ختنہ کے خلاف جنگ کا دندان شکن جواب دیا ہے۔

ازہر یونیورسٹی کے سابقہ شیخ الازھر جاد الحق علی جاد الحق کہتے ہیں:

" یہاں سب مذاہب کے فقہاء کرام اس پر متفق ہیں کہ مرد و زن کے لیے ختنہ کرانا اسلامی فطرت اور دین اسلام کے شعائر میں شامل ہوتا ہے، اور یہ عمل قابل ستائش و تعریف ہے، ہمارے سامنے جو بھی کتب موجود ہیں جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان فقیہ نے یہ کہا ہو کہ مردوں یا عورت کو ختنہ نہیں کرانا چاہیے، یا ختنہ کرانا ناجائز ہے، یا عورتوں کے لیے ختنہ کرانا نقصان دہ ہے، اور اس میں ضرر پایا جاتا ہے۔

اگر یہ ختنہ اس طرح کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی سطور میں بیان کردہ روایت میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھایا تھا "

پھر اس کے بعد شیخ جاد الحق کہتے ہیں:

" مندرجہ بالا سطور کی بنا پر جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ لڑکیوں کا ختنہ کرنا - بحث کا موضوع - اسلام کی فطرت میں شامل ہے، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنت اور راہنمائی کو کسی اور شخص کے قول کی بنا پر ترک نہیں کیا جائیگا، چاہے وہ شخص کتنا بڑا اور ماہر ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ طب اور میڈیکل ایک علم اور فن ہے، جس میں تطور و ترقی ہوتی رہتی ہے، اور ہر وقت اس کے متعلق نظریات میں بھی تبدیلی اور تغیر آتا رہتا ہے " انتہی۔ مختصراً.

اور ازھر یونیورسٹی کی فتویٰ کمیٹی کے سابقہ چئرمین جناب شیخ عطیہ صقر کہتے ہیں:

" وبعده:

لڑکیوں کے ختنہ کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے مخالف ہیں؛ کیونکہ نہ تو قرآن و سنت میں کوئی صریح نص پائی جاتی ہے جس سے لڑکیوں کے ختنہ کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہو، اور نہ ہی فقہاء کرام کا کوئی قول ہے، اس لیے لڑکیوں کا ختنہ کرنا وجوب اور مندوب کے مابین گردش کرتا ہے، اور پھر فقہی قاعدہ ہے کہ:

حکمران اختلاف کرنے کا حکم دے۔ اس لیے اس مسئلہ میں حکمران کو چاہیے کہ وہ یا تو وجوب کا حکم دے یا پھر مندوب ہونے کا، لیکن اس کے لیے ناجائز اور حرمت کا حکم دینا صحیح نہیں، تا کہ وہ شریعت اسلامیہ کا مخالف نہ ہو، کیونکہ اسلامی ممالک میں شریعت اسلامیہ ہی قوانین کا مصدر اور اس ملک کا دستور ہے۔

اور یہ جائز ہے کہ واجب اور مندوب کو اچھی طرح ادا کرنے کے لیے قوانین و تحفظات رائج کیے جائیں، تا کہ وہ دینی قوانین اور فیصلوں کے ساتھ متصادم نہ ہوں۔

اور پھر ڈاکٹر حضرات یا کسی اور کی کلام قطعی نہیں، اس لیے کہ علمی انکشافات کا دروازہ کھلا ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ سامنے آتی ہے، جو پہلے نظریہ کو کالعدم اور تبدیل کرنے پر مجبور کر رہی ہے " انتہی بتصرف۔

مصری دار الافتاء کے فتاویٰ جات میں درج ذیل فتویٰ مذکور ہے:

اس سے لڑکیوں کے ختنہ کی مشروعیت واضح ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا ختنہ کرنا فطرتی محاسن میں سے ہے، اور اس کا زندگی پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اسے اعتدال کی راہ پر لے جاتا ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ کچھ ڈاکٹروں کی رائے میں لڑکی کا ختنہ کرنا صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے تو یہ فردی رائے تو ہو سکتی ہے جس کی کوئی متفق علیہ علمی اساس و بنیاد نہیں، اور نہ ہی یہ ایک فیصلہ کن علمی نظریہ بن سکا ہے، حالانکہ ڈاکٹر حضرات اس بات کے معترف ہیں کہ ختنہ شدہ مرد حضرات میں سرطان کی بیماری بہت کم پائی جاتی ہے اس کے مقابلہ میں جن کا ختنہ نہیں ہوا انہیں یہ بیماری بہت زیادہ لگتی ہے۔

اور بعض ڈاکٹر حضرات تو صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ صرف مرد ڈاکٹروں سے ہی ختنہ کرایا جائے، نہ کہ لیڈی ڈاکٹر سے کیونکہ وہ اس سے جاہل ہیں، تا کہ ختنہ اچھی اور صحیح طرح ہو اور صحت پر اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔

اور پھر بیماریوں کے متعلق میڈیکل نظریات اور بیماریوں کے علاج کا کوئی مستقل اور ایک ہی طریقہ نہیں، بلکہ وقت

اور حالات اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ختنہ کے انکار کی رائے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شارع جو کہ حکیم و علیم بھی ہے اور اس نے وہی چیز مشروع کی ہے جو فطرت انسانی کے لیے صحیح اور سلیم اور بہتر ہے۔

اور پھر ہمیں تجربات نے یہ سکھا دیا ہے کہ لمبا وقت اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حادثات ہمارے سامنے وہ حکمتیں واضح کر دیتا ہے جس کی بنا پر شارع نے ہمارے لیے وہ احکام مشروع کیے تھے اور ہمارے لیے وہ حکمت مخفی رہی اور اس کا علم نہ ہوا، اور سنن میں سے ہماری اس کی جانب راہنمائی فرمائی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد و ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔

دیکھیں: فتاویٰ دار الافتاء المصریة (6 / 1986) .

واللہ اعلم .